

Rev

Chapter 15

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, μέγα καὶ θαυμαστόν:
اور میں نے دیکھا اور اور میں اُس آسمان بڑی اور حیرت-انگیز
[G2532](#) [G3708](#) [G0243](#) [G4592](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3173](#) [G2532](#) [G2298](#)
- ἀγγέλους ἐπτά, ἔχοντας πληγὰς ἐπτά -- τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς
فرشتے سات سات رکھنے والے وپائیں سات سات وہ آخری کیونکہ میں اُن
[G0032](#) [G2033](#) [G2192](#) [G4127](#) [G2033](#) [G3588](#) [G2078](#) [G3754](#) [G1722](#) [G0846](#)
- ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ.
پورا ہوا وہ غضب اُس خدا کا
[G5055](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G2316](#)

کا اللہ سے ان تھے۔ کھڑے کر رکھ پاس اپنے بلائیں آخری سات فرشتے سات تھا۔ انگیز حیرت اور عظیم جو دیکھا، نشان الہی اور ایک پر آسمان نے میں پھر
گیا۔ پہنچ تک تکمیل غضب

- 2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν, ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς
اور میں نے دیکھا جیسے سمندر شیشے جیسا ملا یا ہوا آگ سے اور اُن
[G2532](#) [G3708](#) [G5613](#) [G2281](#) [G5193](#) [G3396](#) [G4442](#) [G2532](#) [G3588](#)
- νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τῆς εἰκόνας αὐτοῦ; καὶ ἐκ
غالب آنے والوں کو سے اُس حیوان اور سے اُس تصویر کی اُس کی اور سے
[G3528](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1504](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1537](#)
- τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν
اُس نمبر کے اُس نام کے اُس کے کھڑے ہوئے پر اُس سمندر اُس
[G3588](#) [G0706](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2281](#) [G3588](#)
- ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ.
شیشے جیسے رکھنے والے بریطیں اُس خدا کی
[G5193](#) [G2192](#) [G2788](#) [G3588](#) [G2316](#)

کے نام کے اُس اور مجسمے کے اُس حیوان، جو تھے کھڑے وہ پاس کے سمندر اس تھی۔ گئی ملانی آگ میں جس دیکھا بھی سمندر ایک سا کا شیشے نے میں
پکڑے سرود ہوئے دیئے کے اللہ وہ تھے۔ گئے آ غالب پر نمبر

- 3 καὶ ἄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν
اور گاتے ہیں وہ وہ گیت موسیٰ کا اُس بندے کا اُس خدا کے اور اور وہ
[G2532](#) [G0103](#) [G3588](#) [G5603](#) [G3475](#) [G3588](#) [G1401](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#)
- ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστά τὰ ἔργα σου, Κύριε
گیت اُس اُس بڑے کا بڑے کہتے ہوئے بڑے اور اور حیرت-انگیز تیرے کام تیرے تیرے خداوند
[G5603](#) [G3588](#) [G0721](#) [G3004](#) [G3173](#) [G2532](#) [G2298](#) [G3588](#) [G2041](#) [G4771](#) [G2962](#)
- ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ! δίκαια καὶ ἀληθινὰ αἱ ὁδοὶ σου, ὁ
وہ خدا وہ قادر مطلق راست اور اور سچی تیری رابیں تیری اے
[G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3841](#) [G1342](#) [G2532](#) [G0228](#) [G3588](#) [G3598](#) [G4771](#) [G3588](#)
- Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν!
بادشاہ اُن قوموں کے
[G0935](#) [G3588](#) [G1484](#)

رابیں تیری بادشاہ، کے زمانوں اے ہیں۔ انگیز حیرت اور عظیم کتنے کام تیرے خدا، مطلق قادر رب اے تھے، رہے گا گیت کا لیے اور موسیٰ خادم کے اللہ
ہیں۔ سچی اور راست کتنی

4 τίς οὐ μὴ φοβηθῆ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου? ὅτι μόνος
 کون نہ نہیں گا-ڈے اور خداوند اور جلال-دے-گا تیرے نام تیرے تیرے کیونکہ صرف
[G5101](#) [G3756](#) [G3361](#) [G5399](#) [G2962](#) [G2532](#) [G1392](#) [G3588](#) [G3686](#) [G4771](#) [G3754](#) [G3441](#)

ὁσος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἤξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου; ὅτι
 پاک کیونکہ ساری وہ اور آئیں-گی قومیں اور سجدہ-کریں-گی سامنے تیرے تیرے کیونکہ
[G3741](#) [G3754](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#) [G2240](#) [G2532](#) [G4352](#) [G1799](#) [G4771](#) [G3754](#)

τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.
 تیرے راست-کام تیرے ظاہر-ہوئے
[G3588](#) [G1345](#) [G4771](#) [G5319](#)

گی، کریں سجدہ حضور تیرے کر آ قومیں تمام ہے۔ قدوس ہی تو کیونکہ گا؟ دے نہیں جلال کو نام تیرے کون گا؟ مانے نہیں خوف تیرا کون رب، اے
 ہیں۔ گئے ہو ظاہر کام راست تیرے کیونکہ

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοιγή ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ
 اور بعد ان میں-نے-دیکھا اور اور کھولی وہ وہ بیگل اُس خیمے-کا اُس
[G2532](#) [G3326](#) [G3778](#) [G3708](#) [G2532](#) [G0455](#) [G3588](#) [G3485](#) [G3588](#) [G4633](#) [G3588](#)

μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ;
 شہادت-کے میں اُس آسمان
[G3142](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#)

گیا۔ دیا کھول کو خیمے کے شریعت کے پر آسمان یعنی گھر کے اللہ کہ دیکھا نے میں بعد کے اس

6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ
 اور نکلے وہ وہ فرشتے جو رکھنے-والے وہ سات واپائیں سے اُس
[G2532](#) [G1831](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0032](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G2033](#) [G4127](#) [G1537](#) [G3588](#)

ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν, λαμπρὸν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη,
 بیگل پہنے-ہوئے کتان صاف چمکدار اور باندھے-ہوئے گرد اُن سینوں
[G3485](#) [G1746](#) [G3043](#) [G2513](#) [G2986](#) [G2532](#) [G4024](#) [G4012](#) [G3588](#) [G4738](#)

ζώνας χρυσᾶς.
 پٹیاں سنہری
[G2223](#) [G5552](#)

سونے پر سینوں کپڑے پہ تھے۔ رہے چمک اور ستھرے صاف کپڑے کے کتان کے اُن تھیں۔ بلائیں سات پاس کے جن آئے نکل فرشتے سات وہ سے گھر کے اللہ
 تھے۔ ہوئے بندھے سے کمر بند کے

7 καὶ ἐν ἐκ τῶν τεσσαρῶν ζώων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ
 اور ایک سے اُن چار جانداروں-نے دیے اُن سات سات فرشتوں-کو سات سات
[G2532](#) [G1520](#) [G1537](#) [G3588](#) [G5064](#) [G2226](#) [G1325](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0032](#) [G2033](#)

φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς
 پیالے سنہرے بھرے-ہوئے اُس-سے غضب اُس خدا-کے جو زندہ-ہے تک اُن
[G5357](#) [G5552](#) [G1073](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2198](#) [G1519](#) [G3588](#)

αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 ابد اُن الابد
[G0165](#) [G3588](#) [G0165](#)

تک ابد سے ازل جو تھے ہوئے بھرے سے غضب کے خدا اُس پیالے پہ دیئے۔ پیالے سات کے سونے کو فرشتوں سات ان نے ایک سے میں جانداروں چار پھر
 ہے۔ زندہ

8	καὶ	ἐγεμίσθη	ὁ	ναὸς	καπνοῦ	ἐκ	τῆς	δόξης	τοῦ	Θεοῦ,	καὶ	ἐκ
	اور	بھر-گئی	وہ	بیکل	دھوئیں-سے	سے	اُس	جلال	اُس	خدا-کے	اور	سے
	G2532	G1072	G3588	G3485	G2586	G1537	G3588	G1391	G3588	G2316	G2532	G1537
	τῆς	δυνάμεως	αὐτοῦ;	καὶ	οὐδεις	ἐδύνατο	εἰσελθεῖν	εἰς	τὸν	ναὸν,	ἄχρι	
	اُس	قدرت	اُس-کی	اور	کوئی-نہیں	سکتا-تھا	داخل-بونا	میں	اُس	بیکل	جب-تک	
	G3588	G1411	G0846	G2532	G3762	G1410	G1525	G1519	G3588	G3485	G0891	
	τελεσθῶσιν	αἱ	ἑπτὰ	πληγαὶ	τῶν	ἑπτὰ	ἀγγέλων.					
	پوری-ہوں	وہ	سات	وبائیں	اُن	سات	فرشتوں-کی					
	G5055	G3588	G2033	G4127	G3588	G2033	G0032					

اُس پہنچیں نہ تک تکمیل بلانیں سات کی فرشتوں سات تک جب اور گیا۔ بھر سے دھوئیں والے ہونے پیدا سے قدرت اور جلال کے اُس گھر کا اللہ وقت اُس
سکا۔ ہوں نہ داخل میں گھر کے اللہ بھی کوئی تک وقت